

یاء متکلم إعراب

Earaab of Ya Mutakallim

یاء متکلم (اسم ضمیر متصل) کے اعراب کے اعتبار سے خاص قواعد ہیں۔

There are specific rules related to E3raab for Ya Mutakallim (Ism Zameer Muttasil).

اگر کوئی اسم یاء متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس کی اعرابی حالت ایک ہی ہوگی۔ اور یاء متکلم کی مناسبت کی وجہ سے رفع، نصب، جر کے تمام اعراب مقدرة ہوتے ہیں۔

If an Ism is Mudaaf to Ya Mutakallim, in all three cases it will appear in the same form. According to compatibility with Ya Mutakallim, all the Eraab of Rafa', Nasab and Jer are Muqaddarah (estimated).

هَذَا صَدِيقِي (یہ میرا دوست ہے) This is my friend.

رَأَيْتُ صَدِيقِي (میں نے اپنے دوست کو دیکھا) I saw my friend.

هَذِهِ السَّيْئَةُ لَصَدِيقِي (یہ گاڑی میرے دوست کے لیے ہے) This watch is for my friend.

اوپر کی مثالوں کی تحلیل کرتے ہوئے

مرفوع کے لیے "ضمة المقدرة" منصوب کے لیے "فتحة المقدرة" اور مجرور کے لیے "كسرة المقدرة" کہیں گے۔

In the analysis of the above examples, we will have Dammatul Muqaddarah for Marfua', Fathatul Muqaddarah for Mansub and Kasratul Muqaddarah for Majroor.

اسماء الخمسة بھی جب یاء متکلم کے طرف مضاف ہوتے ہیں تو تینوں حالتوں میں اس کی اعرابی حالت ایک ہی ہوگی۔ اور یاء متکلم کی مناسبت کی وجہ سے ان کے بھی (رفع، نصب، جر) کے تمام اعراب مقدرة ہوتے ہیں۔

When AsmaaAlKhamsa are Mudaaf to Ya Mtakallim, here also the E3raab will appear to be the same and according to compatibility with Ya Mutakallim, all the Eraab of Rafa', Nasab and Jer are Muqaddarah (estimated).

أَبِي (میرا باپ) أَخِي (میرا بھائی)

My brother

My father

جمع مذکر سالم مضاف یاء متکلم مضاف إليه

Jama' Muzakkar Saalim Mudaaf to Ya Mutakallim

مُعَلِّمِي (میرے اساتذہ) (My teachers)

رَأَيْتُ مُعَلِّمِي (میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو) (I saw my teachers.)

هَذِهِ الْكُتُبُ لِمُعَلِّمِي (یہ کتابیں میرے اساتذہ کے لیے ہیں) (These books are for my teachers.)

مُعَلِّمِي (میرے اساتذہ) مرفوع حالت مُعَلِّمِي (My teachers) Nominative case.

~~مُعَلِّمُونَ + ي = مُعَلِّمُوِي~~ ← مُعَلِّمِي + ي = مُعَلِّمِي

مُعَلِّمُونَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ - Noon of مُعَلِّمُونَ is dropped because of Izaafat.

واو اور یاء دو حرف علت جمع ہو گئے اور اول ان میں سے ساکن ہے پس واو کو یاء میں تبدیل کر دیا اور یاء کو یاء میں مدغم کر دیا و یاء آپس میں مل کر مشدّد ہو گئیں اور جب دو ساکن یاء ملتی ہیں تو ان پر فتح آجاتا ہے۔
- یاء کی مطابقت کی وجہ سے یاء کے ما قبل کے ضمّہ کو کسرة سے بدل دیا۔

-Wow and Ya two Herf Illah occur together and the first one (Wow) is Saakin. So it is changed into Ya and both are merged together. They are now Mushadaad. When two Ya are joined this way, they get a Fatha.

- In compatibility with Ya the Damma of the preceding letter (Meem) is changed to Kasrah.

- "مُعَلِّمِي" و کب اضافی کی تحلیل کرتے ہوئے ہم کہیں گے

Analysis: مُعَلِّمِي (مُعَلِّمُو) Mudaaf the sign of Rafa' is Wow Muqaddarah.

مُعَلِّمُو: مضاف مرفوع علامت رفعه ووا المقدره رفع کی نشانی " ووا المقدره "

رَأَيْتُ مُعَلِّمِي (میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو) منصوب حالت (I saw my teachers.): Accusative case. رَأَيْتُ مُعَلِّمِي .

رَأَى + ت + مُعَلِّمِينَ + ي

فعل ماضى + ت ضمير فاعل + مفعول به و هو مضاف + ياء متكلم مضاف إليه

مُعَلِّمِينَ + ي ← مُعَلِّمِي + ي ← مُعَلِّمِي

اس مثال میں مضاف "مُعَلِّمِينَ" جمع مذکر سالم منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ ہے۔ -In this example Mudaaf مُعَلِّمِينَ is Mansub (accusative).

مُعَلِّمِينَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ -Noon of مُعَلِّمِينَ is dropped because of Idaafat.

یہاں دو یاء جمع ہو گئی پہلی ساکن اور دوسری متحرک دونوں کا ادغام ہو گیا۔

- Two Ya occur together. The first being Saakin and second Mutahrik, both are merged together.

یاء متکلم سے ما قبل پہلے ہی کسرة ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ -Kasrah is already there preceding Ya Mutakallim, so there won't be any change.

مُعَلِّمِي: : مفعول به و هو مضاف **علامت نصبه الياء** نصب کی نشانی "ياء" لفظی۔ -Analysis: مُعَلِّمِي Mudaaf, sign of Nasab is "Ya" Lafzi.

هَذِهِ الْكُتُبُ لِمُعَلِّمِي (یہ کتابیں میرے اساتذہ کے لیے ہیں) جرّی حالت

هَذِهِ + الْكُتُبُ + لِ + مُعَلِّمِينَ + ي
مبتدا + بدل + لِ حرف جر + اسم مجرور و هو مضاف + ياء متکلم مضاف إليه

لِمُعَلِّمِينَ + ي ← لِمُعَلِّمِي

مُعَلِّمِينَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ -Noon of مُعَلِّمِينَ is dropped because of Idaafat.

یہاں دو یاء جمع ہو گئی پہلی ساکن اور دوسری متحرک دونوں کا ادغام ہو گیا۔

- Two Ya occur together. The first being Saakin and second Mutahrik, both are merged together.

یاء متکلم سے ما قبل پہلے ہی کسرة ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ -Kasrah is already there preceding Ya Mutakallim, so there won't be any change.

مُعَلِّمِينَ حرف جر لام کی وجہ سے مجرور ہے۔ -Because of Herf Jer Laam, it is Majroor.

مُعَلِّمِي: : اسم مجرور و هو مضاف **علامت جرّه الياء** جر کی نشانی "ياء" لفظی۔ -Analysis: مُعَلِّمِي Mudaaf, sign of Jer is "Ya" Lafzi.